

Gen

Chapter 46

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיִּסַע	יִשְׂרָאֵל	וְכָל-	אֲשֶׁר-	לֹא	וַיָּבֵא	שְׁבַעמֵבְרָרָה	וַיִּזְבַּח	זִבְחִים	לְאֱלֹהֵי
	اور-روانہ-بوا	اسرائیل	اور-سب	جو	اس-کا	اور-آیا	بئرسع	اور-قربانی-دی	قربانیاں	خدا-کے-لیے
	H5265	H3478	H3605			H0935	H0884	H2076	H2077	H0430
	אָבִיו		יִצְחָק:							
	باپ-اپنے-کے		اسحاق							
	H0001		H3327							

چڑھائیں۔ قربانیاں حضور کے خدا کے اسحاق باپ اپنے نے اُس وہاں پہنچا۔ بئرسع اور بوا روانہ کر لے کچھ سب یعقوب

2	וַיֹּאמֶר	וְאֱלֹהִים	לְיִשְׂרָאֵל	בְּמִרְאֵת	הַלַּיְלָה	וַיֹּאמֶר	יַעֲקֹב	יַעֲקֹב	וַיֹּאמֶר	הַנְּנִי:
	اور-کہا	خدا-نے	اسرائیل-سے	رؤیاؤں-میں	رات-کی	اور-کہا	یعقوب	یعقوب	اور-کہا	یہاں-میں
	H0559	H0430	H3478		H3915	H0559	H3290	H3290	H0559	H2009

ہوں۔ حاضر مَیں جی، دیا، جواب نے یعقوب یعقوب! یعقوب، کہا، نے اُس ہوا۔ کلام ہم سے اُس میں رویا اللہ کو رات

3	וַיֹּאמֶר	אֲנֹכִי	הָאֵל	אֱלֹהֵי	אָבִיךָ	אֵל-	תִּירָא	מִרְרָה	מִצְרַיִם	כִּי-	לְגֹי
	اور-کہا	میں	خدا	خدا	باپ-تیرے-کا	مت	ڈر	اترنے-سے	مصر-کو	کیونکہ	قوم-کے-طور-پر
	H0559	H0595	H0410	H0430	H0001	H0408	H3372	H3381	H4714		
	גְּדוֹל		אֲשִׁמּוֹךְ		שָׁם:						
	بڑی		بناؤں-گا-تجھے		وہاں						
	H8033										

گا۔ بناؤں قوم بڑی ایک سے تجھ مَیں وہاں کیونکہ ڈر، مت سے جانے مصر خدا۔ کا اسحاق باپ تیرے ہوں، اللہ مَیں کہا، نے اللہ

4	אֲנֹכִי	אֲרָד	עִמּוֹךְ	מִצְרַיִם	וְאֲנֹכִי	אֲעֲלֶיךָ	גַּם-	עֲלֶיךָ	וַיֹּסֶף	יִשִׁית	יָדוֹ
	میں	اتروں-گا	تیرے-ساتھ	مصر-کو	اور-میں	اٹھاؤں-گا-تجھے	بھی	اوپر	اور-یوسف	رکھے-گا	باتھ-اپنا
	H0595	H3381		H4714	H0595	H5927	H1571	H5927	H3130	H7896	H3027
	עַל-		עֵינֶיךָ:								
	پر		آنکھوں-تیری								

گا۔ کرے بند آنکھیں تیری خود یوسف تو گا مرے تُو جب گا۔ اُوں لے بھی واپس میں ملک اِس تجھے اور گا جاؤں مصر ساتھ تیرے مَیں

5	וַיָּקָם	יַעֲקֹב	שְׁבַעמֵבְרָרָה	וַיִּשְׂאוּ	בְנֵי-	יִשְׂרָאֵל	אֶת-	יַעֲקֹב	אֲבִיהֶם	וְאֶת-	טַפָּם
	اور-اٹھا	یعقوب	بئرسع-سے	اور-اٹھایا	بیٹوں-نے	اسرائیل-کے	کو	یعقوب	باپ-اپنے	اور-کو	بچوں-اپنے
	H3290	H0884	H5375	H0884	H3478	H0853	H3290	H0001	H0853	H2945	
	וְאֶת-		בְּעֵנְלוֹת		אֲשֶׁר-		שָׁלַח		פָּרְעָה		לְשֵׁאת
	اور-کو		گازیوں-میں		جو		بھیجیں		فرعون-نے		اٹھانے-کے-لیے
	H0853		H5699		H7971		H6547		H5375		H0853

تھیں۔ بھجوائی نے بادشاہ کے مصر جو دیا بٹھا میں گاڑیوں اُن کو بچوں بال اپنے اور اُسے نے بیٹوں کے اُس ہوا۔ روانہ سے بئرسع یعقوب بعد کے اِس

6	וַיִּקְחוּ	אֶת-	מִקְנֵיהֶם	וְאֶת-	רְכוּשָׁם	אֲשֶׁר	רָכְשׁוֹ	בְּאֶרֶץ	כְּנָעַן	וַיָּבֵאוּ
	اور-لیا	کو	مویشیوں-اپنے	اور-کو	سامان-اپنے	جو	حاصل-کیا	سرزمین-میں	کنعان-کی	اور-آئے
	H3947	H0853	H4735	H0853	H7399		H7408	H0776		H0935

مِצְרַיִם	יַעֲקֹב	וְכָל-	זְרַעוֹ	אֹתוֹ:
مصر-کو	یعقوب	اور-سب	نسل-اس-کی	اس-کے-ساتھ
H4714	H3290	H3605	H2233	H0854

گئے۔ چلے مصر کر لے مال ہوا کیا حاصل میں کنعان اور مویشی اپنے اولاد تمام کی اُس اور یعقوب یوں

7	בָּנָיו	وּבְנֵי	בְּנָיו	אֹתוֹ	בְּנָיו	وּבְנֵי	בְּנָיו	وְכָל-
	بیٹے-اس-کے	اور-بیٹے	بیٹوں-اس-کے-کے	اس-کے-ساتھ	بیٹیاں-اس-کی	بیٹوں-اس-کے-کی	اور-سب	
	H2233	H0935	H0854	H0854	H1323	H1323	H3605	

זְרַעוֹ	הַבְּיָא	אֹתוֹ	מִצְרַיִם:	ס
نسل-اس-کی	لایا	اس-کے-ساتھ	مصر-کو	—
H2233	H0935	H0854	H4714	

گئے۔ ساتھ سب اولاد باقی اور پوتیاں پوتے بیٹیاں، بیٹے کے یعقوب

8	וְאֵלֶּיהָ	שְׁמוֹת	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	הַבָּאִים	מִצְרַיִם	יַעֲקֹב	וּבְנָיו	בְּכֹר	יַעֲקֹב
	اور-یہ	نام	بیٹوں-کے	اسرائیل-کے	آنے-والے	مصر-کو	یعقوب	اور-بیٹے-اس-کے	پہلوٹھا	یعقوب-کا
	H0428	H8034	H3478	H0935	H4714	H3290	H1060	H3290		H3290

رְאוּבֵן:
رئوبن
[H7205](#)

روبہن پہلوٹھے کے یعقوب ہیں: یہ گئی چلی مصر جو نام کے اولاد کی اسرائیل

9	وּבְנֵי	رְאוּבֵן	חֲנוֹךְ	וּפְלֹא	וּחֲצֹרֹן	וּכְרָמִי:
	اور-بیٹے	رئوبن-کے	حنوک	اور-فلو	اور-حصرون	اور-کرمی
	H7205	H2585	H6396	H2696	H3756	

تھے۔ کرمی اور حصرون فلو، حنوک، بیٹے کے

10	وּבְנֵי	שְׁמוֹנוֹן	יְמוּאֵל	יְמִין	וְאֶהֱד	וַיִּכִּין	וְזָחַר	וְשָׂאוּל	בֶּן-	הַכְּנַעֲנִית:
	اور-بیٹے	شمعون-کے	یموایل	اور-یامین	اور-اوہد	اور-یاکین	اور-صحر	اور-ساؤل	بیٹا	کنعانی-عورت-کا
	H8095	H3223	H3226	H0161	H3199	H6714	H7586			

تھا۔ (بچہ کا عورت کنعانی) ساؤل تھے ساؤل اور صحر یاکین، اُہد، یمین، یموایل، بیٹے کے شمعون

11	وּבְנֵי	לָוִי	גֵּרְשׁוֹן	קְהָת	וּמְרָרִי:
	اور-بیٹے	لاوی-کے	جیرشون	قہات	اور-مراری
	H3878	H1648	H6955	H4847	

تھے۔ مراری اور قہات جیرسون، بیٹے کے لاوی

12	وּבְנֵי	יְהוּדָה	עֵיר	וְאוֹנָן	וְשִׁלָּה	וּפְרָץ	זָרַח	וְיָמִת	עֵיר	וְאוֹנָן	בְּאֶרֶץ
	اور-بیٹے	یہوداہ-کے	عیر	اور-اونان	اور-شیلہ	اور-فارص	اور-زارح	اور-مرا	عیر	اور-اونان	سرزمین-میں
	H3063	H6147	H0209	H7956	H6557	H2226	H4191	H6147	H0209	H0776	

כְּנָעַן	וַיְהִיוּ	בְּנֵי-	פָּרָץ	חֲצֹרֹן	וּחְמוּל:
کنعان-کی	اور-تھے	بیٹے	فارص-کے	حصرون	اور-حمول
H1961	H6557	H2696	H2538		

تھے۔ حمول اور حصرون بیٹے دو کے فارص تھے۔ (چکے مر میں کنعان اونان اور) عیر تھے زارح اور فارص سیلہ، اونان، عیر، بیٹے کے یہوداہ

13	وּבְנֵי יִשְׂכָרֹת	תּוֹלַע	וּפְנֵה	וַיּוֹב	וַשְׁמֵרוֹן:
	اور-بیٹے	تولع	اور-فہ	اور-یوب	اور-شمرون
	H3485	H8439	H6312	H3102	

تھے۔ شمرون اور یوب فوہ، تولع، بیٹے کے لشکار

14	וּבְנֵי זְבוּלוֹן	סֶרֶד	וְאֵילֹן	וַיַּחֲלִיל:
	اور-بیٹے	سرد	اور-ایلون	اور-یحلیل
	H2074	H5624	H0356	H3177

تھے۔ یحلیل اور ایلون سرد، بیٹے کے زیولون

15	וְאֵלֶּה	בְּנֵי יֵאֵה	אֲשֶׁר יָלְדָה	לְיַעֲקֹב	אֲרָם כְּפָדָן	וְאֵת דִּינָה	בְּתוּר	כָּל-
	یہ	بیٹے	جو	جنے	فدن-ارام میں	اور-کو	بیٹی-اس کی	سب
	H0428	H3812	H3205	H3290	H6307	H0853	H1783	H1323

	נֶפֶשׁ	בְּנֵי	וּבְנֹתָיו	שְׁלֹשִׁים	וְשֵׁשׁ:
	جان	بیٹوں-اس کے	اور-بیٹیوں-اس کی	تیس	اور-تین
	H5315		H1323	H7970	H7969

تھے۔ اولاد کی لیاہ مرد 33کل تھی۔ بیٹی کی اُس دینہ علاوہ کے ان ہوئے۔ پیدا میں مسوپتامیہ وہ اور تھی، لیاہ ماں کی بیٹیوں ان

16	וּבְנֵי	זָד	צִפְיוֹן	וְחָגִי	שׁוּנִי	וְאֶצְבֹּן	עֵרִי	נְאֻרוֹדִי	וְאֶרְאֵלִי:
	اور-بیٹے	جد-کے	صفیون	اور-حجی	شونی	اور-اصبون	عیری	اور-ارودی	اور-اریلی
		H1410	H6837	H2291	H7764	H0675	H6179	H0722	H0692

تھے۔ اریلی اور ارودی عیری، اصبون، شونی، حجی، صفیان، بیٹے کے جد

17	וּבְנֵי	אֲשֶׁר	יִמְנָה	וַיְשׁוּנָה	וַיִּשְׁנִי	וּבְרִיעָה	וְשָׂרָח	אֲחֵתָם	וּבְנֵי	בְרִיעָה	חָבֵר
	اور-بیٹے	آشر-کے	یمنہ	اور-یشوہ	اور-یشوی	اور-بریعہ	اور-شرح	بہن-ان کی	اور-بیٹے	بریعہ-کے	حبر
		H0836	H3232	H3438	H3440	H1283	H8294	H0269	H3205	H1283	H2268

وּמְלִכֵי אֵל:
اور-ملکیابل
[H4439](#)

ایل۔ملکی اور حبر تھے، بیٹے دو کے بریعہ اور تھی، سرح بیٹی کی آشر تھے۔ بریعہ اور اِسوی اِسواہ، یمنہ، بیٹے کے آشر

18	אֵלֶּה	בְּנֵי	זְלֻפָּה	אֲשֶׁר-	נָתַן	לָבֵן	לְזֻלְפָּה	בְּתוּר	וְנַחֲלֵד	אֵת-	אֵלֶּה
	یہ	بیٹے	زلفہ-کے	جسے	دیا	لابن-نے	لیاہ-کے لیے	بیٹی-اپنی	اور-جنیں	کو	یہ
	H0428		H2153		H5414		H3812	H1323	H3205	H0853	H0428

	לְיַעֲקֹב	שֵׁשׁ	עֶשְׂרֵה	נֶפֶשׁ:
	یعقوب-کے لیے	سولہ	دس	جائیں
	H3290	H8337	H6240	H5315

تھا۔ دیا کو لیاہ بیٹی اپنی نے لابن جسے تھے اولاد کی زلفہ افراد 16کل

19	בְּנֵי	רַחֵל	אֲשֶׁת	יַעֲקֹב	יוֹסֵף	וּבְנֵימֹן:
	بیٹے	راحیل-کے	بیوی	یعقوب-کی	یوسف	اور-بنیامین
		H7354	H0802	H3290	H3130	H1144

تھے۔ یمین بن اور یوسف بیٹے کے راحل

20	וַיְהִי	לְיוֹסֵף	בְּאֶרֶץ	מִצְרַיִם	אֲשֶׁר	יְלָדָה	לֹא	אָסַת	בֵּת
	اور-پیدا-ہوئے	یوسف-کے-لیے	سرزمین-میں	مصر-کی	جو	جنے	اس-کے-لیے	آسنت-نے	بیٹی
	H3205	H3130	H0776	H4714		H3205		H0621	H1323

פְּרַעֲפוֹטִי	כֹּהֵן	אֵן	אֶת־	מְנַשָּׁה	וְאֶת־	אֶפְרַיִם:
فوٹیفرع-کی	کابن	اون-کا	کو	منسی	اور-کو	افرائیم
H6319	H3548	H0204	H0853	H4519	H0853	H0669

تھی۔ آسنت بیٹی کی فرع فوطی پجاری کے اون ماں کی اُن ہوئے۔ پیدا میں مصر افرائیم اور منسی بیٹے دو کے یوسف

21	וַבְּנֵי	בְּנֵימִן	בְּלֵעַ	בְּבֹכֶר	וְאֲשֻׁבָל	גִּירָא	וַנְעֻמָּן	אֲחִי	וְרֹאשׁ	מְפִים	וְחַפִּים
	اور-بیٹے	بنیامین-کے	بلع	اور-بکر	اور-اشبیل	جیرا	اور-نعمان	اخی	اور-روش	مفیم	اور-حفیم
		H1144		H1071	H0788	H1617	H5283	H0278	H7220	H4649	H2650

וְאַרְדִּי:
اور-ارد
[H0714](#)

تھے۔ ارد اور حفیم مفیم، روس، اخی، نعمان، جیرا، اشبیل، بکر، بلع، بیٹے کے یمن بن

22	אֶלְהָה	בְּנֵי	רַחֵל	אֲשֶׁר	יָלַד	לְיַעֲקֹב	כָּל־	נָפֶשׁ	אֲרַבְעָה	עֶשְׂרִים:
	یہ	بیٹے	راحیل-کے	جو	پیدا-ہوئے	یعقوب-کے-لیے	سب	جانیں	چودہ	دس
	H0428		H7354		H3205	H3290	H3605	H5315	H0702	H6240

تھے۔ اولاد کی راحل مرد 14 کُل

23	וּבְנֵי־	דָן	חֲשִׁים:
	اور-بیٹے	دان-کے	حشیم
		H1835	

تھا۔ حشیم بیٹا کا دان

24	וַבְּנֵי	נַפְתָּלִי	יַחֲזָאֵל	וְגוֹנִי	וַיְצַר	וְשִׁלֹּם:
	اور-بیٹے	نفتالی-کے	بحصیل	اور-جونى	اور-یصر	اور-شلیم
		H5321	H3183	H1476	H3337	H8006

تھے۔ سلیم اور یصر جونى، ایل، یحصى بیٹے کے نفتالی

25	אֶלְהָה	בְּנֵי	בְּלֵהָה	אֲשֶׁר־	נָתַן	לָבֵן	לְרַחֵל	בָּתוּן	אֶת־	אֶלְהָה
	یہ	بیٹے	بلہ-کے	جسے	دیا	لابن-نے	راحیل-کے-لیے	بیٹی-اپنی	اور-جنیں	کو
	H0428				H5414		H7354	H1323	H0853	H0428

לְיַעֲקֹב	כָּל־	נָפֶשׁ	שִׁבְעָה:
یعقوب-کے-لیے	سب	جانیں	سات
H3290	H3605	H5315	H7651

تھا۔ دیا کو راحل بیٹی اپنی نے لابن جسے تھے اولاد کی بلہاہ مرد 7 کُل

26	כָּל־	הַנָּפֶשׁ	הַבָּאָה	לְיַעֲקֹב	מִצְרַיִמָּה	יִצְחָק	יָרְכוּ	מַלְבָּד	נְשִׁי	בְנֵי־
	سب	جانیں	آنے-والی	یعقوب-کے-ساتھ	مصر-کو	نکلیں	صلب-اس-کی-سے	سوا	بیویوں	بیٹوں-کی
	H3605	H5315	H0935	H3290	H4714	H3318	H3409	H0905	H0802	

יַעֲקֹב	כָּל־	נָפֶשׁ	נְשִׁים	וְנָשׁ:
یعقوب-کے	سب	جانیں	ساتھ	اور-چھ
H3290	H3605	H5315	H8346	H8337

تھیں۔ نہیں شامل بیویاں کی بیٹوں میں تعداد اس گئے۔ چلے مصر ساتھ کے اُس افراد 66 کے اولاد کی یعقوب

27 **וּבְנֵי יוֹסֵף** اور بیٹے یوسف کے **אֲשֶׁר- יוֹסֵף** جو پیدا ہوئے **יָלַד-** اس کے لیے **לֹא** **בְּמִצְרַיִם** مصر میں **נָפֵשׁ** جانیں **שְׁנַיִם** دو **כָּל-** سب **הַנְּפֹשׁ** جانیں **לְבֵית-** گھرانے کے لیے

יַעֲקֹב کے **הַבָּאָה** آنے والی **מִצְרַיִם** مصر کو **שְׁבָעִים:** **פ** — **סֵת** ستر

گئے۔ مصر افراد 70 کے گھرانے کے یعقوب تو ہیں کرتے شامل میں ان بیٹے دو کے اُس اور یوسف یعقوب، ہم جب

28 **וְאֵת- יְהוּדָה** اور کو **שָׁלַח** بھیجا **לְפָנָיו** آگے اپنے **אֶל-** یوسف **יֹסֵף** راستہ دکھانے کے لیے **לְהוֹרֹת** آگے اپنے **לְפָנָיו** جوشن کو **זָשְׁנָה** اور آئے **וַיָּבֵאוּ** اور آئے **אֶרְצָה** سرزمین

זָשְׁנָה:
جوشن کی **H1657**

پہنچے وہاں وہ جب ملے۔ سے اُن میں جشن وہ تاکہ بھیجا پاس کے یوسف آگے اپنے کو یہوداہ نے یعقوب

29 **וַיֵּאָסֶר** اور جوتا **יֹסֵף** یوسف نے **מִרְכַּבְתּוֹ** رت اپنا **וַיַּעַל** اور گیا اوپر **לְקַרְאֵת- יִשְׂרָאֵל** ملنے کے لیے **אָבִיו** باپ اپنے **זָשְׁנָה** جوشن کو **וַיָּבֵאוּ** اور دکھائی دی **אֶלָּו** اسے

וַיַּפְלֵא اور گرا **עַל-** پر **צִנְאוֹרָיו** گردن اس کی **וַיִּבֶךְ** اور رویا **עַל-** پر **צִנְאוֹרָיו** گردن اس کی **עוֹד:** **דִּיר-** تکر

رہا۔ روتا دیر کافی کر لگ گئے کے اُس وہ کر دیکھ اُسے گیا۔ جشن لئے کے ملنے سے باپ اپنے کر ہو سوار پر رہا اپنے یوسف تو

30 **וַיֵּאָמֶר** اور کہا **יִשְׂרָאֵל** اسرائیل نے **אֶל-** سے **יֹסֵף** یوسف **אָמַנְתָּה** مر جاؤں **הַפַּעַם** اس دفعہ **אֲחֵרִי** بعد **רְאוּתִי** دیکھنے کے میرے **אֵת-** کو **כְּפִיךָ** چہرہ تیرا **כִּי** کیونکہ

עוֹדָךָ ابھی بھی تو **חַי:** **זַנְדֵה** زندہ **H5750**

ہے۔ زندہ تو کہ بے دیکھا خود نے میں کیونکہ ہوں، تیار لئے کے مرنے میں اب کہا، سے یوسف نے یعقوب

31 **וַיֵּאָמֶר** اور کہا **יֹסֵף** یوسف نے **אֶל-** سے **אָחָיו** بھائیوں اپنے **וְאֶל-** اور سے **בֵּית** گھرانے **אָבִיו** باپ اپنے کے **אֶעֱלֶה** جاؤں گا **וַאֲנִידָה** اور بتاؤں گا **לְפָרְעָה** فرعون کو

וְאָמַרְתָּ اور کہوں گا **אֶלָּו** اسے **אָחִי** بھائی میرے **וּבֵית-** اور گھرانہ **אָבִי** باپ میرے کا **אֲשֶׁר** جو **בְּאֶרֶץ-** سرزمین میں **כְּנַעַן** کنعان کی **כָּאוּ** آئے **אֵלָּי:** **מִירַע-** پاس **H0413** **H0935** **H0776** **H0001** **H0251** **H0413** **H3130** **H0413** **H0559** **H0413** **H0559**

باپ میرے اور بھائی میرے کہ دوں اطلاع کو بادشاہ کر جا میں کہ بے ضروری کہا، سے افراد باقی کے خاندان کے باپ اپنے اور بھائیوں اپنے نے یوسف پھر ہیں گئے آ پاس میرے ہیں والے رہنے کے کنعان جو خاندان پورا کا

32 **וְהָאֲנָשִׁים** اور آدمی **רָעִי** چرواہے **צֹאן** بکریوں کے **כִּי-** کیونکہ **אֲנָשִׁי** آدمی **מִקְנֶה** مویشیوں کے **הָיוּ** تھے **וּבְכָרָם** اور بکریاں ان کی **וּבְכָרָם** اور گائے ان کے

וְכָל- اور سب **אֲשֶׁר** جو **לָהֶם** ان کا **הָבִיאוּ:** **לָאֵ** **H0935** **H3605**

آئے لے ساتھ اپنے مال سارا باقی اور گائے بیل بھیڑ بکریاں، اپنی لئے اس ہیں، پالتے مویشی وہ ہیں۔ چرواہے کے بھیڑ بکریوں آدمی یہ گا، کہوں سے اُس میں ہیں۔

33	וְהָיָה	כִּי-	יִקְרָא	לָקֶם	פְּרַעָה	וְאָמַר	מִזַּעֲשֵׁיכֶם:
	اور-ہو-گا	کہ	بلائے-گا	تمہیں	فرعون	اور-پوچھے-گا	کیا
	H1961		H7121		H6547	H0559	H4100
							H4639

بو؟ کرتے کام کیا تم کہ گا پوچھے کر بلا تمہیں بادشاہ

34	וְאָמַרְתֶּם	אֲנִשִּׁי	מִקְנֶה	הָיוּ	עֲבָדָיו	מִנְעוּרֵינוּ	וְעַד-	לְעָתָה	נִם-	אֲנַחְנוּ	נִם-
	اور-کہو	آدمی	موبیشیوں-کے	تھے	خادم-تیرے	جوانی-ہماری-سے	اور-تک	اب	بھی	ہم	بھی
	H0559	H0376	H4735	H1961	H5650		H5704	H6258	H1571	H0587	H1571
	אֲבֹתֵינוּ	בְּעִבּוֹר	תְּשׁוּבוֹ	בְּאֶרֶץ	זָשׁוּן	כִּי-	תוֹעֵבֹת	מִצְרַיִם	כָּל-	רָעָה	
	باپ-دادا-ہمارے	تاکہ	بسو	سرزمین-میں	جوشن-کی	کیونکہ	مکروہ	مصر-کے-لیے	ہر	چرواہا	
	H0001	H5668	H3427	H0776	H1657		H8441	H4713	H3605		

بָּאָן:

بکریوں-کا

[H6629](#)

جشن تمہیں تو کہو یہ تم اگر ہے۔ بھی ہمارا اور تھا پیشہ کا دادا باپ ہمارے یہ ہیں۔ اُنے پالتے موبیشی سے بچین خادم کے آپ ہے، دینا جواب کو تم پھر ہیں۔ نفرت قابل میں نظر کی مصریوں چرواہے کے بھیڑبکریوں کیونکہ گی۔ ملے اجازت کی رہنے میں